

31781- دھوکہ دینے والی کمپنی میں کام کرنا، اور ایسی کمپنی میں کام کرنے کا حکم جس کی بعض قسموں میں مباح اور بعض میں حرام کام ہوتے ہوں

سوال

ایک کمپنی جس میں حلال اور حرام دونوں کام ہوتے ہیں اور مسروقہ اشیاء فروخت کرتی اور دھوکہ دیتی ہے، کیا اس میں کام کر کے تنخواہ لینا حلال ہے؟
اگر وہ اس کمپنی سے کام ترک کرتا ہے تو جو بھی کام کرے اس میں ہی شرعی ممنوعات پائی جائیگی، لہذا اسے کیا کرنا چاہیے؟
کیا وہ اپنا کام کرتا رہے یا پھر کام چھوڑ کر بچوں کو بھوکا رکھے، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے؟

پسندیدہ جواب

اگر تو آپ کے کام سے ان کے دھوکہ و فراڈ اور چوری میں کسی بھی طرح اور کسی بھی شکل میں معاونت ہوتی ہو تو یہ کام جائز نہیں ہے۔

کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿اور تم نیکی و بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہا کرو، اور برائی گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو﴾ المائدہ (2)۔

لیکن اگر آپ کا کام حرام کاموں سے بعید ہے، اور کمپنی کی اور بھی حصے ہیں جو حرام لین دین نہیں کرتے، تو کمپنی کے مباح کام والے حصہ میں آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ :
حرام کام میں کوئی معاونت نہ ہوتی ہو۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

"سودی اداروں میں ملازمت کرنی جائز نہیں، اگرچہ انسان چوکیدار، یا ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کا سودی اداروں میں ملازمت کرنے سے ان اداروں پر رضامندی لازم آتی ہے؛ کیونکہ جو کوئی کسی چیز کا انکار کرتا ہے اس کے لیے اس چیز کی مصلحت میں کام کرنا ممکن نہیں، اور جب اس کی مصلحت میں کام کرے تو وہ اس سے راضی ہے، اور حرام چیز کی رضامندی سے اس کے گناہ کا حصہ بھی اسے ملے گا۔

لیکن جو شخص خود لکھتا، اور احاطہ قید میں لاتا، اور وصول کرتا، اور جاری وغیرہ کرتا ہے، وہ بلا شک و شبہ ڈائریکٹ حرام کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ :
جاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، اور سود کھلانے والے، اور سود کے دونوں گواہوں، اور سود لکھنے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا :
یہ سب برابر ہیں"

دیکھیں : فتاویٰ اسلامیہ (401/2)۔

آپ پر واجب ہے کہ حرام کام کرنے والی اقسام سے مالکوں کو منع کریں، اور انہیں یہ معاملات ترک کرنے کی نصیحت کریں، اور آپ پر یہ بھی واجب ہے کہ : اگر آپ استطاعت رکھتے ہوں تو خریداروں کو بھی نصیحت کریں، اور سامان میں پائے جانے والے عیب کے متعلق انہیں آگاہ کریں۔

اور رہا مسئلہ کہ کوئی دوسرا کام ملتا ہی نہیں، تو یہ بات صحیح نہیں، اور یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے :

﴿اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، اور اسے رزق بھی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا﴾۔

اس لیے مباح اور جائز کام بہت زیادہ ہیں، لہذا آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور اس پر توکل کرتے ہوئے حرام سے اجتناب کریں۔

اور یہ کہ : بچے بھوکے مریں گے، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ان کا بھوکا مرنا افضل ہے۔ اگر ان کی موت فرض کر لی جائے۔ یا کہ آپ ان کی وجہ سے آگ میں داخل ہو جائیں؟!

پھر اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا، اور ان کا رزق بھی اپنے ذمہ لیا، جیسا کہ مندرجہ ذیل فرمان باری تعالیٰ میں ہے :

﴿اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے﴾۔

اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿اور تم اپنی اولاد کو فقر و تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بلاشبہ انہیں قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے﴾۔

اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کا رزق اس کے ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے قبل کا ہی لکھ دیا ہے، لہذا آپ عرش عظیم کے مالک سے فقر اور تنگ دستی سے نہ ڈریں، لیکن اگر ڈرنے ہی ہے تو پھر اپنے نفس امارہ سے ڈریں جو برائی پر ابھارتا اور فتنوں و معاصی اور گناہوں کی جرات دلاتا ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں :

"جو گوشت بھی حرام (کھاکر) پلا اور زیادہ ہوا ہو اس کے لیے آگ زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے"

اسے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترمذی میں (614) روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے۔

حدیث میں لفظ "یربو" کا معنی زیادہ ہونا اور بڑھنا ہے۔

اور "سحت" حرام کو کہتے ہیں۔

ذیل میں ہم خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت کے چند ایک واقعات پیش کرتے ہیں :

ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس مسلمانوں کے بیت المال کے لیے کچھ سیب آئے تو ان کے چھوٹے بیٹے نے ایک سیب لے لیا، تو عمر نے اس کے ہاتھ سے بہت شدت کے ساتھ وہ سیب پھینکا کہ بیٹا روتا ہوا ماں کے پاس چلا گیا، تو ماہ نے بازار سے بچے کے لیے سیب خرید کر دیا، جب عمر واپس آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو سیب کی خوشبو محسوس کی تو کہنے لگے :

اے فاطمہ، کیا تو نے اس مال سے کچھ لیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، اور انہیں بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے مال سے سیب خریدا ہے۔

تو عمر رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے :

اللہ کی قسم، میں نے اس سے سیب چھینا تو ایسے لگا کہ میں نے اپنے دل سے چھینا، لیکن میں نے یہ ناپسند کیا کہ مسلمانوں کے مال سے ایک سیب کے سبب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ضائع کر دوں۔

دیکھیں: مناقب عمر بن عبد العزیز (190)۔

عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد اپنی بیٹیوں کو سلام کرنے گئے، جب ان کی بیٹیوں کو محسوس ہوا تو انہوں نے اپنے مونہوں پر ہاتھ رکھ لیے اور ان سے دور ہو گئیں، تو عمر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھ بھال کرنے والی عورت سے کہا: انہیں کیا ہوا؟

تو اس نے جواب دیا: ان کے پاس رات کا کھانا کھانے کے لیے سوائے دال اور پیاز کے کچھ نہ تھا، تو انہوں نے ناپسند کیا کہ آپ ان کے مونہ کی بوسہ لگائیں، تو عمر رحمہ اللہ تعالیٰ رونے لگے، اور پھر اپنی بیٹیوں کو کہنے لگے: میری بیٹیو! تمہیں اس کا کوئی نفع اور فائدہ نہ ہوگا کہ طرح طرح اور انواع اقسام کے کھانے کھاؤ اور تمہارے باپ کو جہنم کی آگ میں جانے کا حکم ہو، تو بیٹیاں بھی بلند آواز میں رونے لگیں۔

دیکھیں: عمر بن عبد العزیز، تالیف ڈاکٹر برنو (142)

عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جب مرگ الموت میں تھے تو انہیں کہا گیا کہ تم اپنی اولاد کو فقر کی حالت کر چھوڑ رہے ہو یہ اچھی بات نہیں، ان کی اولاد میں دس بیٹوں سے زیادہ تھے، انہیں بلایا، اور انہیں دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر کہنے لگے:

میرے بیٹو! تمہارے والد کو دو چیزوں کے مابین اختیار دیا گیا ہے، یا تو تم مالدار بن جاؤ اور تمہارا باپ آگ میں جائے، یا پھر تم فقیر اور تنگ دست رہو اور تمہارا باپ جنت میں داخل ہو، لہذا تمہارا فقر اور تنگ دست رہنا اور تمہارے والد کا جنت میں داخل ہونا اسے اس سے زیادہ محبوب تھا کہ تم مالدار بنو اور تمہارا والد آگ میں جائے، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں بچائے۔

اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔

واللہ اعلم۔